

Tarjuma-Tul-Quran-ul-Majeed - 9th Class Tarjmatul Quran Urdu Medium Short Question Preparations

Q1. پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور عورتیں شامل تھیں.

Ans 1: پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں.

Q2. آیات کا ترجمہ لکھیں. والسلام علی یوم ولدث و یوم اموت و یوم ابعث حیا.

Ans 1: ترجمہ: سلامتی ہے تجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا.

Q3. معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا فرمایا.

Ans 1: آپ نے فرمایا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی.

Q4. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا حلیہ بیان فرمایا ہے.

Ans 1: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا. وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل کر کے باہر آئے ہوں.

Q5. سورہ مریم علیہ السلام کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے.

Ans 1: سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے.

Q6. سورہ مریم کے دو علمی و عملی نکات تحریر کریں.

Ans 1: سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں- 1- اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ 2- تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی.

Q7. مشرکین مکہ کے لوگوں نے بجاشی سے کیا کہا.

Ans 1: ان لوگوں نے بجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند نا سمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آگئے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے. وہ آپ کے دن کے بھی خلاف ہیں. آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں.

Q8. سورہ مریم کے اہم علمی و عملی نکات میں سے دو تحریر کریں.

Ans 1: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی.

سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا. Q9.

Ans 1: جب نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ اپنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کیں۔ نجاشی اور اس کے درباریوں نے بہت اڑ بوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا: یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔

پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی. Q10.

Ans 1: پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی.